

مہرجین شہدہ دانا لا إله إلا الله

نقیسین

د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر

وہرگیران

بیگہس اسماعیل عمر

مزگفت

www.mzgaft.com

زنجیرا نامیلکین ۵. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر



نفیسین: د. عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر

وهرگپران: بیگهس إسماعیل عمر

پیداجوون: شیخان شیخه میری

دیزایننا نافه پروکن: سندی مهدی موسی

دیزایننا بهرگی: نورالله سامی

هژمارا زنجیرئ: (5)

ژ بهرهمین: سایتی مزگهفت www.mzgaft.com



بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہم می سوپاسی بو خودی بتنی بن، وسلاوات وسلاقیں خودی لسہر
وی بن یی چ پیغہمبہر پستی وی نہہین، ولسہر بنہمال وہہقالین
وی ودیقدہ:

بزانہ برایی نیسلامی خودی تہ ری نیشاندر بکہت بو گوہدانا
خو، وبہری تہ بدہتہ حہژیکرنا خو، کو چیترین ومہزنتین
ومفاترین وقہدرترین پھیف نیکرنا خودی یہ کو پیکھاتیہ ژ ()
لا إله إلا الله) وئو گریا شدیایہ، وئو پھیفا تہقوایی یہ، وئو
مہزنتین ستوینا دینی یہ، وگرنگترین سہخلہتی باوہری یہ،
وئو ئہگہری ب دەستقہئینانا بہحہشتی ورزگاربونا ژ ناگری یہ،
ہر ژبہر بنہجہ کرنا فی پھیفی خودی بونہوہر یین چیکرین،
وپہرتوک یین ئیناینہ خوار، وپیغہمبہر یین ہنارتین، وئو پھیفا
شہدہدانی یہ، کلیلا فہکرنا مالا بہختہوہری یہ (بہحہشتی یہ
(وئو بنیاتی دینی یہ، وسہری کاریہ وکلوفانکا وی یہ، خودی

تہعالا گوتییہ: { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ: ١٨]

وئہو دہقین ہاتین لسہر خیر وقہدر وگرنگی ومہزنییا بہایی وی
د قورنائی وسونہتی دا زیدہ گہلہکن.

شیخ الإسلام ابن تیمیہ خودی دلوقانی پی بہت گوتییہ: وخیرین
ئہقی بہیقی وراستی وجہی وی ژ دینی یا لسہر ہندی ٹیک بشیت
وہسف بکہت، وپیناسہکی بدہتی، وئہو سہری کاری ہہمی یہ.

برایی ئیسلامی بزانیہ خودی بہری تہ بدہتہ گوہدانا خو: کو
ہندیکہ بہیفا - لا إله إلا الله - ژ بیژہری وی ناہیتہ قہبویل کرن
ومفایی ناگہہینتی، ئہو نہبیت ہہتا مافی وی بہیتہ دان، وکا چ
پیدی بخوقہ گرتیہ بہینہ بجہ ئینان، ومہرجین وی ب دروستی
بہینہ ئەداکرن ژ ئەوین قورنائی وسونہتی دا ہاتین، وئہو حہفت
مہرجین گرنکن یا پیدیہ لسہر ہہر موسلمانہکی بزانیہ وکار
پی بکہت،

چىتە بەھەشتى؛ ئىنا گوت: يى بىژىت لا ئىلە لا ئىلە و ماف وئەركىن
وئى بچھ بىنىت دى چىتە بەھەشتى.

* وھسەنى گوتە فرزدقى وئەو يى ھەقزىنا خۆ قەدشېرىت:
ئەرى تە چ بۇ قى روژى ئامادە كرىه ؟ گوتى: ئەفە ژ ھەفتى
سالانە من شەھەدانا - لا ئىلە لا ئىلە - يا ئامادە كرى، ئىنا
ھەسەنى گوتى: وئەو باشتىن ئامادەكارىه، بەلى بزانه ئەففى
شەھەدانى مەرجىن ھەين، وھشياربە تۆ ئافرەتېن پاقژ ب زىنايى
گونهھبار بکەى.

و وھب بن منبە گوتىيە دەمى پرسىار ژى ھاتىە كرىن: ئەرى مانە
لا ئىلە لا ئىلە كلىلا بەھەشتى يە ؟ گوتى: بەلى؛ بەس ھەر كلىلەكا
ھەبىت ئىلا ددان يىن ھەين، قىچا ئەگەر تە ئەو كلىل ئىنا
وددانىت وئى پىقھە بن دى بوتە قەبىت، ئەگەر نە بۇ تە نا قەبىت.
ودقىت ژ پەيقا ددانىت كلىلى ئامازە بدەتە مەرجىن - لا ئىلە لا
ئىلە - ئەوېن كو ئەركە لسەر ھەر موسلمانەكى عاقلى پىگەھشتى.

ووهكى بهرى نوكه هاتيه گوتن كو مهرجين شهدهدانا - لا إله إلا
الله - حهفتن ئه و ژى :

1- العلم: ته زانين ب پامانا وئ ههبيت، و ب نه فيكرن سه لماندن
بيژى (ئانكو تۆ كرنا عيبادهتى ژ ههر كه سه كئ ديتر ژبلى خودئ
نه فى بكهئ، وبؤ خودئ بتنى بسه لمينى) زانينه كا هوسا يا چ
نه زانينئ نه هيليت.

2- اليقين: ب پشت راستيه كا هوسا بهيته گوتن يا كو چ شك
وگومانئ نه هيليت.

3- الإخلاص: ب دلسوزيه كا هوسا بهيته گوتن يا كو چ هه فپشكين
وريمه تئ نه هيليت.

4- الصدق: ب راستگوييه كا هوسا بهيته گوتن يا كو چ دره وئ نه
هيليت.

5- المحبة: بجه ژيكرنه كا هوسا بهيته گوتن يا كو چ نه فيان
وكه ربئ نه هيليت.

6- **الإنقياد**: بخۆ شکاندنه کا هوسا بهیته گوتن یا کو چ هیلان دگهل نه بیت.

7- **القبول**: ب وەرگرتنه کا هوسا بهیته گوتن یا کو چ لیزفراندن (پهتکرن) دگهل نه بیت.

وهندهک ژ خه لکئ زانینی ئەف هەر چهفت مه رجه یین د بهیته کا شعری دا کومه هه کرین گوتینه:

عَلْمٌ یَقِیْنُ وَاِخْلَاصٌ وَصِدْقٌ مَعَ مَحَبَّةٍ وَاِنْقِیَادٌ وَاَلْقَبُولُ لَهَا
وهندهکا گوتیه:

بشروطٍ سبعةٍ قد قُیِّدَت	وفي نُصوص الوحي حقاً وَرَدَت
فإنه لم ينتفع قائلها	بالنطق إلا حيث يستكملها
العِلْمُ واليَقِیْنُ والقَبُولُ	والانقيادُ فادرٍ ما أقولُ
والصِّدْقُ والإِخْلَاصُ والمَحَبَّةُ	وَقَقَّكَ اللهُ لما أَحَبَّه

وگەرەمكە ئەفە بۆ تە دياركرنا ھەر مەرجهكى ژ ئەقان مەرجان
دگەل بەلگەيى وى ژ قورئانى و سوننەتى:

يا ئىككى: زانين ب راما نا وى ب نەفيكرن وسەلماندن: ومەرەم پى
ئەوہ تۆ ھەمى جورين عيبادەتى ژ ھەر كەسەكى ديتەر ژبلى خودى
نەفى بگەى، وتۆ فى ھەمىي بەس بۆ خودى بتنى بنەجھ بگەى،
كا چەوا خودى تەعالا گوتىيە: { اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } [سُورَةُ
الْفَاتِحَةِ: ٥] ئانكو: ئەم عيبادەتى تە بتنى دكەين وعيبادەتى كەسى
ديتر ناكەين، ونەم ھاريكاريى بەس ژ تە دخوازين و ژ كەسى
ديتر نا خوازين. لەوما يا فەرە ئەوى دىيژيت: لا ئىله لا الله زانين
ب راما نا وى ھەبيت،

خودى تەعالا گوتىيە: { فَاَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ }
[سُورَةُ مُحَمَّدٍ: ١٩] ئانكو: تۆ بزانه -ئەى پىغەمبەر- كو ژ خودى
پىقەتر چ خودايين ژ راستا نينن، وتو داخوازا ژبىرنا گونەھان بۆ
خۆ بگە.

وگوتیہ: { إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [سُورَةُ الرَّحْمٰنِ: ٨٦]
 نانکو: و ئه وین بوتپہرئس عیبادہتی بو دکہن چ ددہستی وان دا
 نینہ ژ مہدہری، ئہو تی نہ بیت پی ژ راستا شہدہکی دایی،
 وباوہری ب ئیکرنا خودی و پیغہ مہرینیا موحمہدی سلاف لی
 بن ئینای، وئہو راستیا وی دزانن یا وان شہدہیی پی دای .

وزانایین تہفسیری لسہر فی ئایہتی گوتینہ نانکو ئہو نہ بیت پی
 شہدہکی ب لا إله إلا الله دا بیت. { وَهُمْ يَعْلَمُونَ } نانکو: وئہو
 راستیا وی دزانن یا وان شہدہیی پی دای ب دلین خو وئہزمانی
 خو.

وہاتیہ فہگواستن ژ عثمان بن عفان خودی ژئی رازی بیت کو
 پیغہ مہری ﷺ گوتیہ: " مَنْ مَاتَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ
 الْجَنَّةَ " نانکو: ہر کہسہکی بمریت وئہو ژ راستا بزانیٹ کو چ
 خودایین دروست نینن ہہژی عیبادہتکرنی ژبلی خودی دی چیتہ
 بہحہشتی.

وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ " ئانكو: سى
 سخلەت يېن ھەين ئەگەر لدەف ئىكى ھەبن دى شىرېنيا باوھرىي
 بىنىت: خودى وپېغەمبەرى وى خوشتقىتىرىن كەس بن لدەف وى
 ژ ھەر كەسەكى دىتر، وئەو ھەژ كەسەكى بكەت نە ژبەر چ
 ئەگەران ئەگەر ژبەر خودى نەبىت، ھوسا كەرب ژ زفرېنا بۇ
 گاورىي ھەبىت كا چەوا پى نەخوشە بەھىتە ھافىتەن بۇ ناف ئاگرى
 دا.

يا شەشى: خۇشكاندنا چ ھىلان دگەل نەبىت، مەرەم پى ئەو: كو
 پىدقىيە بىژرەي گوتنا - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - خۇ بشكىنىت بۇ شەرىعەتئ
 خودى، وخو بۇ فەرمانىت خودى بچەمىنىت، وخۇ رادەستى وى
 بكەت، ھەر ھەكى خودى تەعالا گوتىيە: { وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا
 لَهُ } [سُورَةُ الزُّمَرِ: ٥٤] ئانكو: ھووين -گەلى مرۇفان- ب گۇھدارى
 وتۇبەكرنى ل خودايى خۇ بزفرن، وخۇ ب دەست وى فە بەردەن.

ھەرودەسا گوتىيە: { وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ
 { [سُورَةُ النَّسَاءِ: ١٢٥] ئانكو: وما دىنى كىژ كەسى ژ يى وى

باشتر ههیه یی ب دل ولهشی خو ب دهست خودی بتنی قه بهردای،
وئهو یی قهنجیکار بت. وپه یقین { وَأَسْلِمُوا } و { أَسْلَمَ } ب
رامانا خو شکاندن وچه ماندن دهیت.

یا هفتی: وەرگرتنا لیزقرین دگهل نه بیت: مەرهم پی ئه وه: کو
پیدیقه وەرگرتنا ئه فان په یقان بهیته کرن وەرگرتنه کا ژ راست
یا ب دل وئه زمان، و خودی بو مه گوتیه ژ دهنگوباسین ئومه تین
چووی ژ یین خودی ئه و رزگارکرین ژ بهر وەرگرتنا وان بو
شه ههدانا - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - وتولقه کرن وتیچوونا وی بو هنده کا
یین ئه ف په یقه زفراندین وقه بیل نه کرین، خودی تهعالا گوتیه:
{ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ }
[سورة يونس: ۱۰۳] ئانکو: پاشی ئه م پیغه مبه رین خو وئه وین د
گهل وان باوهری ئینانین رزگار دکهین، وکانی چاوا مه ئه وین هه
رزگارکرین هه ر و هسا ژ قهنجی و دلوقانییا خو ئه م دی ته -ئهی
پیغه مبه ر- وئه وین باوهری بته ئینانین زی رزگار کهین.

وگوتیه: { إِيَّاهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (۳۵)
 وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ (۳۶) } [سُورَةُ الصَّافَّاتِ:
 ۳۵-۳۶] ئانكو: هندی ئەو بوتپه‌ریس دەمی د دنیاوی دا بو وان
 هاتا گۆتن: ژ خودی پی‌شه‌تر چ خودایی‌ن راست نینن، ئەو دا خو
 ژ فی گازیی و خودانی و می مه‌زنتر لی کهن. ووان دگۆت: ئەری ژ
 بهر گۆتتا زه‌لامه‌کی شاعر و دین ئەم دی په‌رستنا خوداوه‌ندی‌ن خو
 هی‌لین؟

ژ خودی دخوازم ئەو به‌ری مه‌ هه‌میا بده‌ته بجه‌ئینانا په‌یفا
 ئی‌کک‌رنا خودی په‌یفا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بگوتن وکریار و بیروباوهر،
 وه‌هر ئەو بتنی یه‌ یی مروفی راسته‌ ری دکه‌ت، و به‌ری مروفی
 دده‌ته ری‌کا راست و دروست.

وصلی الله وسلم وبارک وأنعم علی عبد الله
 ورسوله نبینا محمد وعلی آله و صحبه أجمعین.

لَا تُحْمِلُهُ عَنِ عَرْشِ اللَّهِ شَيْئًا

مزگفت

www.mzgaft.com